




DOLLY PARTON کی تخیلی لائبریری



Roo Knows Blue - Renée Tremblay

یہ مزیدار کتاب Roo اور Possum کے بعد آ رہی ہے اور ان کتابوں میں وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں رنگ دریافت کر رہے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

رنگوں کی پہچان پیدا کرنا بچوں کے لیے ایک نہایت اہم مہارت ہے اور بچے بہت سی گفتگو اور مشق کے ساتھ لمبا عرصہ استعمال کر کے یہ مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب رنگوں کی دریافت کی ہر طرح کی دلچسپ سرگرمیوں کے لیے بہت عمدہ آغاز ہے۔

بے بی کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے تجاویز

- کتاب کو اس طرح پکڑنا یقینی بنائیں کہ بے بی اسے دیکھ سکتا ہو۔ بے بی کو کتاب پکڑنے دیں یا مل کر صفحے پلٹیں۔
- کبھی کبھار شاید آپ کہانی پڑھیں گے، کبھی کبھار شاید آپ صرف مل کر صفحے دیکھیں گے اور رنگوں کے نام لیں گے۔



1 سے 4 سال عمر کے بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجاویز

- بچے کو جواب بتانے سے پہلے اس سے ہر صفحے کا رنگ پوچھیں۔ اگر بچہ نہ جانتا ہو تو اس کی مدد کریں۔
- جب آپ لوگ باہر گھوم رہے ہوں تو بچے کو رنگوں کی طرف توجہ دلائیں – ایسی چیزیں تلاش کریں جو پوری کی پوری یا زیادہ تر ایک ہی رنگ کی ہوں جیسے کاریں، غبارے یا پھول۔



پری سکول کی عمر کے بچوں کے ساتھ پڑھنا

- اپنے بچے کو Roo کی غلطی پہچاننے کی ترغیب دیں۔ بچے کو وہ لفظ تلاش کرنے کے لیے مدد دیں جو صفحے پر ہر رنگ کا نام بیان کرتا ہے اور اسے مل کر پڑھیں۔
- خاکوں میں سب رنگین چیزیں تلاش کرنے اور انہیں نام دینے کے لیے مل کر کام کریں؛ ان میں سے کچھ چیزیں آسان ہوں گی جیسے آسمان اور جھیل مگر کچھ چیزیں کم جانی پہچانی ہوں گی جیسے لومڑی، پتنگے اور پنک گالاہ پرندہ۔



آسٹریلیا میں Dolly Parton کی تخیلی لائبریری کے متعلق مزید جاننے کے لیے براہ مہربانی ہماری ویب سائٹ دیکھیں:

unitedway.com.au/imagination-library